



سٹی آف برامپٹن 8 مارچ سے صوبے کے گرے لاک ڈاؤن لیول میں داخل ہو رہا ہے

برامپٹن، آن (7 مارچ 2021) – بروز پیر، مورخہ 8 مارچ کو بوقت دن 12:01 سے مؤثر ہونے کے بعد، پبل ریجن کے ایک حصے کے طور پر برامپٹن کو حکومت اونٹیریو کے **کووڈ-19 ریسپانس فریم ورک: کینیڈا اونٹیریو سیف اینڈ اوپن** کے تحت گرے لیول میں داخل کیا جا رہا ہے۔

حکومت اونٹیریو کا گرے لاک ڈاؤن لیول

صوبے کے گرے لاک ڈاؤن لیول میں درج ذیل حفاظتی اقدامات اور پابندیوں کو شامل کیا گیا ہے:

منتظم شدہ عوامی تقریبات، سماجی اجتماعات و مذہبی خدمات، رسومات و تقریبات

- ایک ہی گھرانے کے افراد کے علاوہ کسی قسم کی منتظم شدہ اندرونی تقریبات یا سماجی اجتماعات کی اجازت نہیں ہو گی۔ ایسے لوگ جو اکیلے رہ رہے ہوں بشمول عمر رسیدہ افراد، دیگر ایک شخص کے ساتھ قریبی رابطہ میں رہنے پر غور کر سکتے ہیں؛
- بیرونی مقامات پر منتظم شدہ عوامی تقریبات یا سماجی اجتماعات میں زیادہ سے زیادہ 10 افراد کے اکٹھے ہونے کی اجازت ہو گی؛
- شادی کی تقریبات، تہیز و تکفین کے اجتماعات اور مذہبی رسومات وغیرہ یا دیگر ایسی رسومات و تقریبات جہاں جسمانی فاصلے کو برقرار رکھا جا سکتا ہو، میں 10 افراد گھر کے اندر یا 10 افراد بیرونی مقامات پر شریک ہو سکتے ہیں۔

کاروباری ادارے

- موقع پر جا کر خریداری کی حدود کی پابندیوں کے ساتھ اجازت ہے:
 - سپرمارکیٹس اور دوسرے اسٹور جو بنیادی طور پر گروسریز فروخت کرتے ہیں، کنوینینس سٹورز اور فارمیسیاں: 50 فیصد
 - دیگر تمام ریٹیل (بشمول ڈسکاؤنٹ اور پگ باکس ریٹیلرز، لیکوئر سٹورز، ہارڈویئر سٹورز، گارڈن سنٹرز): 25 فیصد
- ریستورانٹس، بارز اور کھانے پینے کی اشیاء فروخت کرنے والے کاروباروں کو صرف ٹیک آؤٹ، ڈرائیو تھرو اور ڈیلیوری فراہم کرنے کی اجازت ہو گی۔ گاہکوں کو اندرونی یا بیرونی جگہوں پر بٹھا کر کھانا پیش کرنے پر پابندی ہو گی:
- ذاتی نگہداشت کی خدمات بشمول ہیئر سیلونز، باربر شاپس، نیل سیلونز اور ٹیٹو پارلرز بند رہیں گے؛
- کیسینو، پنگو ہالز اور اس طرح کے گیمنگ کے دیگر ادارے مکمل طور پر بند رہیں گے؛
- ان ڈور سپورٹس اور تفریحی سہولت گاہیں، بشمول پؤلز کو محدود استثنیٰ کے ساتھ بند رکھا جائے گا۔
- گھریلو، صفائی اور مرمتی کی سروسز کی اجازت ہے۔ بیرونی صفائی اور مرمتی کی سروسز کی اجازت ہے، بشمول برائے ان ڈور اور آؤٹ ڈور پینٹنگ، تالابوں کی صفائی اور مرمتی کے عمومی کام۔

سکول اور چائلڈ کیئر

- سکول، بیفور اور آفٹر سکول پروگرام اور چائلڈ کیئر کے مراکز بند رہیں گے؛
- پوسٹ سیکنڈری اسکول صرف ایسی تربیت کے لیے کچھ محدود استثنیٰ کے تحت ورچوئل لرننگ کے ساتھ کھلے رہیں گے، جو صرف ذاتی طور پر مہیا کی جا سکتی ہے، مثلاً کلینیکل تربیت یا ٹریڈ سے متعلق تربیت۔

سٹی کی سروسز اور سہولیات

سٹی ہال اور کاروباری سہولت گاہیں

سٹی ہال اور کاروباری سہولت گاہیں بالمشافہ سروسز کے لیے صرف بذریعہ اپوائنٹمنٹ کھلی رہیں گی۔ بغیر اپوائنٹمنٹ جانے کی اجازت نہیں ہو گی۔ اپوائنٹمنٹ بک کرنے کے لیے ملاحظہ کریں: www.brampton.ca/skiptheline

سٹی کے تفریحی مراکز

سٹی آف برامپٹن کی تمام تفریحی سہولت گاہیں عوام کے لیے بدستور بند رہیں گی اور ان ڈور پروگرام بھی تاحکم ثانی بند رہیں گے۔



ورچونل پروگرامز

ورچونل فٹنیس

رہائشیوں کو انسٹرکٹرز کی نگرانی میں چلائی جانے والی ورچونل فٹنیس کلاسوں میں شمولیت کی دعوت دی جاتی ہے۔ تربیت یافتہ فٹنس انسٹرکٹرز کی زیر نگرانی 30 منٹ پر مشتمل ورزشیں 15 مارچ سے شروع ہوں گی۔ رجسٹریشن کا آغاز 8 مارچ سے ہو گا۔

+55 ورکشاپس

برامپٹن کے ایسے رہائشی جن کی عمر 55 سال یا اس سے زیادہ ہو، وہ اپنے گھر کے پرسکون ماحول سے مفت ورچونل ورکشاپس کے لیے رجسٹر ہو سکتے ہیں۔ شرکاء کو ایک محفوظ اور منظم ماحول میں سماجی میل جول بڑھانے، نئی دوستیاں بنانے اور آن لائن روابط قائم کرنے کا موقع ملے گا۔

مشمول ورچونل سرگرمیاں اور ورکشاپس

یہ سلسلہ معذوریوں اور استثنائی حالات کے حامل شرکاء کے لیے دلچسپ سرگرمیوں میں شامل ہونے، کچھ نیا سیکھنے اور اپنے ہم عمر افراد کے ساتھ دیرپا دوستی پیدا کرنے کا ایک نادر موقع ہے۔

ورچونل پروگراموں کی پیشکشوں، بشمول رجسٹر ہونے کے طریقے کی تفصیلات کے بارے میں مزید معلومات www.brampton.ca/recreation سے حاصل کی جا سکتی ہے۔

گھر پر تفریح

آن لائن آرٹس اور کرافٹس ٹیوٹوریلز کے ذریعے گھر پر رہتے ہوئے بھی فعال اور وابستہ رہیں، رسائی 24/7 دستیاب ہے! اورنگیمی ہرٹس بنانے کا طریقہ سیکھیں، اپنی کیلیگرافی کی مہارتوں میں نکھار پیدا کریں اور مزید بہت کچھ گھر میں رہتے ہوئے وسیع اقسام کی سرگرمیوں تک رسائی [یہاں](http://www.brampton.ca/recreation) سے حاصل کریں، جو برامپٹن ریکریٹیشن نے بہت محبت سے تیار کی ہیں۔

برامپٹن لائبریری

برامپٹن لائبریری اپنی چنگواکوسی، فور کارنرز اور سپرنگ ڈیل شاخوں سے محدود حد تک سروس پیش کرے گی۔ مورخہ 15 مارچ 2021 سے ان شاخوں سے کرب سائیڈ پک اپ کی سہولت بند کر دی جائے گی۔ پہلے سے پاس موجود مواد کے لیے کرب سائیڈ پک اپ کی سہولت سائرن کلارک، گورمیڈوز، ماؤنٹ پلیزنٹ ویلج، ساؤتھ فلیچرز اور ساؤتھ ویسٹ شاخوں سے بدستوں جاری رہے گی۔ کسٹمرز اب برامپٹن لائبریری کی تمام شاخوں سے گریب 'این' گو بیگز مستعار لے سکتے ہیں اور مواد کو 24 گھنٹے محفوظ اور آسان طریقے سے کسی بھی بیرونی ڈراپ باکس کے ذریعے واپس لوٹا سکتے ہیں۔ اضافی جرمانے تاحکم ثانی وصول نہیں کیے جائیں گے۔

موجودہ طور پر لائبریری کی شاخوں میں قابل واپسی مواد کی وصولی، لائبریری کے کمپیوٹروں کا مختصر ٹرانزیکشنل استعمال، پرنٹنگ اور فوٹو کاپی کرنے کی سروسز ہی دستیاب ہوں گی۔ شاخوں میں مطالعہ کی جگہ دستیاب نہیں ہے اور کام یا مطالعہ کے لیے ذاتی ڈیوائسز کا استعمال بھی ممنوع ہے۔

اوقات کار، سیفٹی پروٹوکولز اور مواد کی واپسی کے طریقہ بارے میں معلومات کے لیے [یہاں کلک کریں](http://www.brampton.ca/recreation)۔

مینڈیٹری فیس کوورنگز

مینڈیٹری فیس کوورنگز بائی لاء کے مطابق، برامپٹن میں موجود تمام اندرونی عوامی مقامات کے اندر نان میڈیکل ماسک یا چہرہ ڈھانپنے کی دوسری چیزوں کا استعمال لازمی ہے۔ عوامی اداروں اور کاروباروں پر لازم ہے کہ وہ اپنے زیر کنٹرول اندرونی عوامی مقامات میں ماسک یا چہرہ ڈھانپنے کی دوسری اشیاء کے استعمال کو یقینی بنائیں۔

ضمنی قانون میں کچھ افراد کو استثنائی بھی حاصل ہے، بشمول وہ لوگ جو طبی وجوہات کی بناء پر ماسک یا چہرے کو ڈھانپنے کے لیے دیگر کوئی بھی چیز نہیں پہن سکتے ہیں؛ دو سال سے کم عمر بچے؛ ہنگامی احکامات کے تحت سانس پھولنے والی سرگرمیوں میں مصروف افراد۔ مزید معلومات کے لیے، ملاحظہ کریں: www.brampton.ca/masks

رہائشی اور کاروباری ادارے 311 پر کال کر سکتے ہیں، ملاحظہ کریں www.311brampton.ca یا مزید معلومات اور سروس کی گزارشات کے لیے 311 موبائل ایپ استعمال کریں۔

لنکس

مزید جانیں:

- [سٹی آف برامپٹن کووڈ-19 پروگرامنگ اور سروس اپ ڈیٹس](http://www.brampton.ca/recreation)
- [سٹی آف برامپٹن - کیا بند کر دیا گیا ہے اور کیا کھلا ہے](http://www.brampton.ca/recreation)
- [کووڈ-19 کی علامات](http://www.brampton.ca/recreation)



- [کووڈ-19 کی ویکسین](#)
- [برامپٹن میں ٹیسٹنگ کی سہولیات](#)
- [خود کو انسولیٹ کیسے کریں](#)
- [کووڈ-19 کے دوران کاروباری اداروں اور کام کی جگہوں کو کیسے محفوظ رکھیں](#)
- [بیل میں کووڈ-19 کے کیسز](#)

30--

میڈیا کنٹیکٹس

مونیکا ڈوگال

کوآرڈینیٹر، میڈیا اینڈ کمیونٹی انگیجمنٹ

اسٹریٹیجک کمیونیکیشن

سٹی آف برامپٹن

905-874-3426 | Monika.Duggal@brampton.ca